



**THE
SENATE OF PAKISTAN
DEBATES**

OFFICIAL REPORT

Friday, the February 14, 2025
(346th Session)
Volume II, No. 02
(Nos. 01-05)

Printed and Published by the Senate Secretariat, Islamabad

Volume II
No. 02

SP.II(02)/2025
15

Contents

1.	Recitation from the Holy Quran.....	1
2.	Leave of Absence.....	3
3.	Motion under Rule 263 moved for dispensation of rules	5
4.	Consideration and Passage of The Prevention of Trafficking in Persons (Amendment) Bill, 2025	9
5.	Consideration and passage of [The Prevention of Smuggling of Migrants (Amendment) Bill, 2025]	11
6.	Consideration and passage of [The Emigration (Amendment) Bill, 2025]	13
7.	Laying of a copy of the Money Bill the Income Tax (Amendment) Bill, 2025, as required under Article 73 of the Constitution	15
8.	Recommendations by the Senate to the National Assembly on the Money Bill the Income Tax (Amendment) Bill, 2025, as required under Article 73 of the Constitution.....	15
9.	Motion under Rule 263 moved for dispensation of rules	16
	• <i>Senator Hidayatullah Khan</i>	21
10.	Resolution moved by Senator Azam Nazeer Tarar, Minister for Law and Justice, Urging the Provincial Government to abide by the Constitutional rights and allow peaceful political gatherings and rallies across Pakistan.....	23
11.	Motion under Rule 194(1) moved by Chairman, Standing Committee on Information and Broadcasting on [The Protection of Journalists and Media Professionals (Amendment) Bill, 2022].....	24
12.	Presentation of Report of the Standing Committee on Information and Broadcasting on [The Protection of Journalists and Media Professionals (Amendment) Bill, 2022]	25
13.	Presentation of Report of the Standing Committee on Cabinet Secretariat on [The Service Tribunals (Amendment) Bill, 2024], (Amendment of section 4)	26
14.	Presentation of Report of the Standing Committee on Finance and Revenue on [The State-Owned Enterprises (Governance and Operations) (Amendment) Bill, 2024]	26
15.	Presentation of Report of the Standing Committee on Finance and Revenue on a Starred Question regarding “the names, designations and place of domicile of the employees appointed in the Agricultural Development Bank during the last ten years”.	27
16.	Calling Attention Notice moved by Senator Poonjo regarding imposition of toll tax without completion of 17 kilometers road from Rajarasti to Umerkot	27
	• <i>Mr. Abdul Aleem Khan (Minister for Privatization)</i>	29

17.	Point of public importance raised by Senator Kamran Murtaza regarding killing of labourers in Balochistan	31
18.	Points of public importance raised by Senator Syed Ali Zafar regarding	32
19.	i) IMF meeting with Chief Justice of Supreme Court of Pakistan...	32
20.	ii) PECA Act and iii) Judges seniority issue.....	32
21.	Pointing out of the quorum	40

نے deferment مانگی ہے کیونکہ منسٹر آج موجود نہیں ہیں۔ آپ reply کریں گے؟
 سینیٹر اعظم نذیر تارڑ (وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف): میڈم چیئر پرسن! بات یہ ہے کہ
 Minister for Power Petroleum, Energy and Water کے وزیر مصدق ملک صاحب، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ہماری Indus Water Treaty کی negotiations کے سلسلے میں لندن گئے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کی
 deferment تھی۔ اس کے علاوہ Planning & Development کا ایک attention تھا، احسن اقبال صاحب available نہیں ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں خود اسے
 respond کرنا چاہتا ہوں۔ احسن اقبال صاحب ویسے تشریف لاتے ہیں۔ ان کی deferment آئی تھی۔ اسی طرح سالک صاحب بھی رات کو بیرون ملک روانہ ہوئے ہیں۔ لہذا، میں تو تیار ہوتا
 ہوں لیکن اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میں اور لغاری صاحب موجود ہیں، اپنے حصے کا کام ہم
 کریں گے۔

میڈم پریذائڈنگ آفیسر: ہم سوال نمبر 3 سے شروع کرنے والے تھے لیکن
 unfortunately جیسے منسٹر نے کہا ہے کہ ہم defer کر رہے ہیں until the next rota day. یہ اہم سوالات ہیں۔ سیکرٹری صاحب! ان کو پھر لے آئیے گا۔ اگلا سوال کون سا ہے؟
 میرے سامنے Water Resources کے 19 سوالات ہیں۔ I don't have any of the list that is left. These are all deferred. Secretary sahib,
 آجاتے ہیں جو کہ سینیٹر محسن عزیز صاحب کا ہے۔ وہ موجود نہیں ہیں۔ could you give me the questions that are left because
 they are mostly all deferred. میں Power Division کے سوالات لے لیتے ہیں۔

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: میڈم پریذائڈنگ آفیسر! قراہ العین صاحبہ نظر آرہی ہیں اور نہ فوزیہ
 ارشد صاحبہ۔ جن میں وزیر موجود ہیں، ان میں movers نہیں ہیں اور جن میں movers ہیں، ان میں وزیر نہیں ہیں۔
 میڈم پریذائڈنگ آفیسر: میرے خیال میں Power کے سوالات کے بھی movers

نہیں ہیں۔ اٹو صاحب! آپ mover ہیں؟ کوئی mover نہیں ہے۔
 سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: میرے خیال میں اگر ایسی صورت حال ہے تو اگر ہم پورا
 Question Hour ہی suspend کر کے defer کر دیں تو مناسب ہوگا۔ It looks
 bad کہ دو چار movers نہیں ہیں یا وزیر نہیں ہیں۔ لہذا، یہ سارا بنزس اگلے rota day پر چلا
 جائے۔
 میڈم پریذائڈنگ آفیسر: کیونکہ میں جتنے بھی movers دیکھ رہی ہوں، موجود نہیں
 ہیں۔

Senator Azam Nazeer Tarar: I think it is beneficial for all of us. So, I beg to move that if House agrees, the Question Hour be suspended and the business be deferred to the next rota day.

Madam Presiding Officer: If the House agrees, we may defer because
 جیسا کہ میں نے کہا کہ 19 سوالات Water Resources کے ہیں لیکن متعلقہ وزیر موجود
 نہیں ہیں۔ اس وقت بیرون ملک ان کا جائز travel ہے۔ دوسرا، باقی سوالات کے movers
 موجود نہیں ہیں، لہذا، آپ سب کی اجازت سے ہم اگلے item کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے ہم چھٹی کی
 درخواستیں لے لیتے ہیں۔

Leave of Absence

Madam Presiding Officer: Senator Mohammad Ishaq Dar has requested for the grant of leave for 24th and 27th January, 2025 during the 345th Session due to official engagements. Is leave granted?

(The leave was granted)

Madam Presiding Officer: Senator Syed Shibli Faraz has requested for the grant of leave for 27th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted)

Madam Presiding Officer: Senator Aon Abbas has requested for the grant of leave from 21st to 28th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted)

Madam Presiding Officer: Senator Syed Ali Zafar has requested for the grant of leave for 24th January, 2025 during the 345th Session. Is leave granted?

(The leave was granted)

Madam Presiding Officer: Senator Liaqat Khan Tarakai has requested for the grant of leave for 17th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted)

Madam Presiding Officer: Senator Saleem Mandviwalla has requested for the grant of leave for 28th January, 2025 due to personal engagements. Is leave granted?

(The leave was granted)

Madam Presiding Officer: Senator Rahat Jamali has requested for the grant of leave for 27th and 28th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted)

Madam Presiding Officer: Senator Saifullah Abro has requested for the grant of leave from 20th to 27th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted)

Madam Presiding Officer: Senator Samina Mumtaz Zehri has requested for the grant of leave for 17th and 24th to 28th January, 2025. Is leave granted?

(The leave was granted)

Madam Presiding Officer: Now, we may move to the next item.

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: کچھ legislative business ہے، میری درخواست ہوگی کہ اسے پہلے لے لیا جائے۔ باقی بعد میں لیا جائے کیونکہ reports lay کرنے والے movers بھی ابھی موجود نہیں ہیں۔

The Chairperson may please graciously allow me to proceed from item No.10 as these are the Bills and have been submitted by the Committee.

Madam Presiding Officer: I understand, I am aware that what these Bills are. I am only here for another 30 minutes or less, so, I will go ahead with these. We move to item No.10.

Motion under Rule 263 moved for dispensation of rules

Senator Azam Nazeer Tarar: The Reports were laid yesterday. These are positive Reports. May I explain the background?

پچھلے دنوں جو boat accidents ہوئے ہیں، ان واقعات نے پھر ہمیں ایک دفعہ جگایا ہے۔ وزارتِ داخلہ نے اس پر stake-holders سے، prosecution سے، investigation branch سے اور وزارتِ قانون سے consultation کے بعد، کچھ ترمیم Anti-Human Trafficking and Anti-Beggary Gangs تجویز کی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے متعلق ہیں جو باہر exports کر رہے ہیں اور پاکستان کا image tarnish کر رہے ہیں۔

Unfortunately, young girls were being exported for illicit purposes. So, these laws have been amended in order to curb those menaces. I believe that with amendments of these laws, prosecution, conviction and other related things would improve also. With kind permission of Chair, I, on behalf of Senator Syed Mohsin Raza Naqvi, Minister for Interior, would like to move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of

Business in the Senate, 2012, that the requirement of sub-rule (2) of Rule 99 of the said Rules, may be dispensed in order to take into consideration at once the Bill at Order No.11. Senator Ali Zafar! These anti-trafficking Bills were cleared by the Standing Committee on Interior yesterday.

میڈم پریذائینڈنگ آفیسر: وزیر قانون صاحب! آپ نے بڑی تفصیل سے ان تمام بلوں پر

discussion کی۔

These all pertain to the same kind of criminality.

یونگ گرلز اور بگاری کو control کرنے کے لیے یہ بل بلیغی اعظم نذیر تارڑ: یہ بل

prostitutes بنانے کو ختم کرنے کے حوالے سے ہیں۔ یہ کمیٹی سے بھی پاس ہو کر آئے ہیں۔

میڈم پریذائینڈنگ آفیسر: یہ anti-human trafficking bills ہیں کیونکہ ان

exploitation کی وجہ سے پاکستان اور اس کے شہریوں کی تذبذب ہو رہی ہے اور ان کی

بھی ہو رہی ہے۔ As you explained that یہ کمیٹی سے بھی پاس ہو کر آئے ہیں اور

National Assembly سے بھی پاس ہو چکے ہیں

and due process has been completed. I, now, put the motion before the House.

(The motion was carried)

میڈم پریذائینڈنگ آفیسر: سینیٹر محسن عزیز صاحب! وقفہ سوالات کو اس وجہ سے defer

کیا گیا کیونکہ آپ اور movers ایوان میں موجود نہیں تھے۔

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: سینیٹر محسن عزیز صاحب! آپ اس وقت ایوان میں موجود نہیں تھے۔

ایوان کے سامنے وقفہ سوالات کو defer کرنے کی بات کی گئی تھی۔ اگر آپ نے سنا تھا تو آجاتے۔

میڈم پریذائینڈنگ آفیسر: سینیٹر صاحب! میں نے آپ لوگوں کے نام پکارے لیکن کسی نے

جواب نہیں دیا۔ 19 سوالات Ministries of Water Resources and

Petroleum کے تھے۔ کل بھی explain کیا گیا تھا کہ منسٹر صاحب ملک سے باہر ہیں۔ یہ سب House کی consent سے ہوا ہے۔

(مداخلت)

میڈم پریذائینڈنگ آفیسر: سینیٹر محسن عزیز صاحب! اگر آپ کچھ سوالات کے mover تھے تو آپ کو ایوان میں ہونا چاہیے تھا۔ We started the sitting at 10:37 and it is now 10:55. ہم نے ایوان میں آپ کا انتظار کیا لیکن آپ نہیں آئے اور دوسرے movers بھی موجود نہیں تھے۔ ایوان کی اجازت سے ہم نے سوالات defer کیے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔

Order No. 11. Senator Syed Mohsin Raza Naqvi, Minister for Interior, may move Order. No. 11.

(مداخلت)

میڈم پریذائینڈنگ آفیسر: سینیٹر سیف اللہ! آپ کس چیز کی copy کا کہہ رہے ہیں؟ سوالات کی copies رکھی گئی تھیں لیکن آپ لوگ دیر سے آئے۔ میں آپ سے معذرت کرتی ہوں کیونکہ یہ سب ایوان کی consent سے ہو چکا ہے۔ Copies اس وجہ سے اٹھائی گئی ہیں کیونکہ سوالات defer ہوئے ہیں۔

(مداخلت)

میڈم پریذائینڈنگ آفیسر: سینیٹر سیف اللہ! آپ اس وقت ایوان میں موجود نہیں تھے۔ براہ مہربانی تشریف رکھیں۔ دیکھیے ایسا نہ کریں۔ کوئی بھی mover اس وقت ایوان میں موجود نہیں تھا۔ سینیٹر صاحب سن تولیں۔۔۔

(مداخلت)

میڈم پریذائینڈنگ آفیسر: سوالات کی copies اس وجہ سے اٹھائی گئی ہیں کیونکہ یہ دوبارہ آئیں گے۔ جب دوبارہ وقفہ سوالات ہوگا تو آئیں گے۔ Copies اٹھانے کا کوئی مذموم مقصد نہیں ہے۔ Copies اس وقت اٹھائی جاتی ہیں جب Question Hour defer ہو جاتا ہے۔ اٹرو صاحب! براہ مہربانی تشریف رکھیں۔ Copies اس وجہ سے اٹھائی گئی ہیں تاکہ

questions shall not be taken as read. گلی دفعہ آپ کے لیے یہ سوالات

موجود ہوں گے۔ جی۔ Leader of the Opposition.

سینٹر سید شبلی فراز (قائد حزب اختلاف): دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ساری بحث ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ کل ایوان میں منسٹر صاحبان موجود نہیں تھے تو کل کے وقفہ سوالات کو آج کے لئے رکھا گیا۔ اب اگر وہی سوالات آپ دوبارہ آگے لے کر جائیں گے تو پھر دیکھ لیں۔

میڈم پریذائینڈنگ آفیسر: جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جی۔ Minister for

Law, آپ explain کر دیں۔ I was happy to do the Question Hour. سینٹر اعظم نذیر تارڑ: میرے فاضل اور محترم دوست اس وقت ایوان میں موجود نہیں تھے۔ آج وقفہ سوالات میں Ministry of Human Rights کے questions تھے جن کے لئے I was prepared اور movers موجود نہیں تھے۔ اسی طرح Ministry of Power کے وزیر اولیس لغاری صاحب موجود تھے لیکن ان کے بھی movers نہیں تھے۔ مجھے دو سوال اور دیے گئے اور میں موجود تھا لیکن movers موجود نہیں تھے۔ جو دو movers موجود تھے، ان کے منسٹر water accord کے سلسلے میں لندن گئے ہوئے ہیں۔ یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور وہ آج آجائیں گے۔ شبلی فراز صاحب! ہم نے سوالات ختم نہیں کیے بلکہ defer کیے ہیں۔

میڈم پریذائینڈنگ آفیسر: اسی وجہ سے copies remove کی گئی ہیں تاکہ وہ

treat نہ taken as read کیے جائیں۔

(مداخلت)

میڈم پریذائینڈنگ آفیسر: اہڑو صاحب! آپ خود سوچ لیں۔ اگر ابھی copies رکھی گئیں

تو پھر دوبارہ سوالات نہیں آسکیں گے۔ ہم آپ کے سوالات کا تحفظ کر رہے ہیں۔

Order No. 11. Senator Syed Mohsin Raza Naqvi, Minister for Interior, may move Order. No. 11. On his behalf, Minister for Parliamentary Affairs.

Consideration and Passage of The Prevention of Trafficking in Persons (Amendment) Bill, 2025

Senator Azam Nazeer Tarar: I, on behalf of Senator Syed Mohsin Raza Naqvi, Minister for Interior, move that the Bill further to amend the Prevention of Trafficking in Persons Act, 2018 [The Prevention of Trafficking in Persons (Amendment) Bill, 2025], as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once.

Madam Presiding Officer: Will you explain it again, please.

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: جی میں ایک بار پھر اسے explain کر دیتا ہوں۔ ہمارے جو beggary gangs bust policies change ہوئی ہیں، ان کے لیے کچھ necessary changes کرنی تھیں۔ ہم forum of trial, magistrate سے Session Courts کر رہے ہیں۔ جو سزائیں تھیں، وہ ہم 3 سال سے 7 سال اور 7 سال والی سزائوں کو 10 سال کر رہے ہیں اور کچھ procedures improve کیے گئے ہیں۔ Smooth trails میں جو hiccupس آ رہے تھے، انہیں بہتر کیا گیا ہے کیونکہ نہ صرف کشتیاں ڈوبنے کی وجہ سے قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں بلکہ پاکستان کا بھی tarnish ہو رہا ہے کہ آپ کے beggary gangs اور underage girls smuggling کا بھی بڑا سنگین issue ہے۔

Madam Presiding Officer: I, now, put the motion before the House.

(The motion was carried)

Madam Presiding Officer: We may, now, take up Second Reading of the Bill. Clause 2. There is no amendment in Clause 2. So, I put Clause 2 before the House. The question is that Clause 2 do form part of the Bill?

(The motion was carried)

Madam Presiding Officer: Clause 2 stands part of the Bill. Clause 3. There is an amendment in Clause 3 in the name of Senator Azam Nazeer Tarar, Minister for Law and Justice, please move the amendment.

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: پہلے اس بل کی definitions میں article selling and other tricky words reconsider کر لیں اور پھر floor of the House پر یہ move کر لیں۔ اسے improve کیا گیا ہے۔ جو beggary ہے، اس میں ہم outside Pakistan کی بات کر رہے ہیں اور یہ beggars کے لئے نہیں بلکہ ان کے handlers کے لئے ہے۔

I, now, move that in Clause 3, in Section 3, in Clause (c), for paragraph (i), the following shall be substituted:

‘(i) solicits or receives alms at a public place under any pretence visibly in a form of beggary;’.

Madam Presiding Officer: I, now, put the amendment before the House.

(The motion was carried)

Madam Presiding Officer: The question is that Clause 3 as amended do form part of the Bill?

(The motion was carried)

Madam Presiding Officer: Clause 3 as amended stands part of the Bill. Clauses 4 to 7. There is no amendment in clauses 4 to 7, so I will put these clauses before the House as one question.

(The motion was carried)

Madam Presiding Officer: Clauses 4 to 7 stand part of the Bill. Now we may take up clause 1, the Preamble and the Title, of the Bill. The question is that clause 1, the Preamble and the Title, do form part of the Bill?

(The motion was carried)

Madam Presiding Officer: Clause 1, the Preamble and the Title, stands part of the Bill. Order No. 12, Senator Syed Mohsin Raza Naqvi, Minister for Interior, may move Order No. 12. On his behalf Law Minister, please move Order No. 12.

Senator Azam Nazeer Tarar: On behalf of Minister for Interior, I wish to move that the Bill further to amend the Prevention of Trafficking in Persons Act, 2018 [The Prevention of Trafficking in Persons (Amendment) Bill, 2025], be passed.

Madam Presiding Officer: I now put the motion to the House.

(The motion was carried)

Madam Presiding Officer: The motion is carried and the Bill stands passed. Order No. 13. Senator Syed Mohsin Raza Naqvi, Minister for Interior, may move Order No. 13. On his behalf Law Minister, please move Order No. 13.

Consideration and passage of [The Prevention of Smuggling of Migrants (Amendment) Bill, 2025]

Senator Azam Nazeer Tarar: On behalf of Minister for Interior, I wish to move that the Bill further to amend the Prevention of Smuggling of Migrants Act, 2018 [The Prevention of Smuggling of Migrants (Amendment) Bill, 2025], as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once.

Madam Presiding Officer: Is it opposed? No. I now put the motion to the House.

(The motion was carried)

Madam Presiding Officer: The motion is adopted. Second reading of the Bill. There is no amendment in clauses 2 to 6, so I will put these clauses before the House as one clubbed question. The question is that clauses 2 to 6 do form part of the Bill?

(The motion was carried)

Madam Presiding Officer: Clauses 2 to 6 stand part of the Bill. Clause 1, the Preamble and the Title, of the Bill. We may now take up Clause 1, the Preamble and the Title, of the Bill. The question is that clause 1, the Preamble and the Title, do form part of the Bill?

(The motion was carried)

Madam Presiding Officer: Clause 1, the Preamble and the Title, stands part of the Bill. Order No. 14, Senator Syed Mohsin Raza Naqvi, Minister for Interior may move Order No. 14. On his behalf Law Minister, please move Order No. 14.

Senator Azam Nazeer Tarar: Madam Chairperson, on behalf of Minister for Interior, I wish to move that the Bill further to amend the Prevention of Smuggling of Migrants Act, 2018 [The Prevention of Smuggling of Migrants (Amendment) Bill, 2025], be passed.

Madam Presiding Officer: I now put the motion to the House.

(The motion was carried)

Madam Presiding Officer: The motion is carried and the Bill stands passed. Order No. 15. Yes, Leader of the Opposition.

Senator Syed Shibli Faraz (Leader of the Opposition): There is a request that we are very patiently being part of this and we would also like that a

parliamentary leader should be given the opportunity to speak and at the same time, since a particular issue was raised yesterday by our ANP colleague Senator Hidayatullah Khan

جس میں انہوں نے protest کیا تھا کہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ اس میں ہم سب نے agree کیا تھا۔ اس میں آپ نے بھی agree کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم quickly ایک resolution pass کر لیں so that we can get this out of the way اور کل اس ایوان میں باتیں ہوئی ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب نے بھی support کیا تھا۔ آپ نے بھی support کیا تھا۔ میں نے بھی support کیا تھا۔ آپ اسے pass کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔۔۔

میڈم پریزائیڈنٹ آفیسر: ایک گزارش ہے کہ business کی یہ 2 items ختم کر کے we will take your resolution and we will need suspension of rules, so we will do it.

سیکرٹری صاحب اتنی دیر میں rules suspend کرنے کا motion بنا رہے ہیں۔
Order No. 15, Senator Syed Mohsin Raza Naqvi, Minister for Interior, may move Order No. 15. On his behalf Law Minister, please move Order No. 15.

Consideration and passage of [The Emigration (Amendment) Bill, 2025]

Senator Azam Nazeer Tarar: On behalf of Minister for Interior, I wish to move that the Bill further to amend the Emigration Ordinance, 1979 [The Emigration (Amendment) Bill, 2025], as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once.

Madam Presiding Officer: Is it opposed?

Senator Azam Nazeer Tarar: No.

Madam Presiding Officer: I now put the motion to the House.

(The motion was carried)

Madam Presiding Officer: The motion is adopted. Second reading of the Bill. We may now take up second reading of the Bill. Clauses 2 to 4. There is no amendment in clauses 2 to 4, so I will put these clauses as clubbed question before the House. The question is that clauses 2 to 4 do form part of the Bill?

(The motion was carried)

Madam Presiding Officer: Clauses 2 to 4 stand part of the Bill. Clause 1, the Preamble and the Title, of the Bill. We may now take up Clause 1, the Preamble and the Title, of the Bill. The question is that clause 1, the Preamble and the Title, do form part of the Bill?

(The motion was carried)

Madam Presiding Officer: Clause 1, the Preamble and the Title, stands part of the Bill. Order No. 16, Senator Syed Mohsin Raza Naqvi, Minister for Interior, may move Order No. 16. On his behalf Law Minister, please move Order No. 16.

Senator Azam Nazeer Tarar: Madam Chairperson, on behalf of Minister for Interior, I wish to move that the Bill further to amend the Emigration Ordinance, 1979 [The Emigration (Amendment) Bill, 2025], be passed.

Madam Presiding Officer: I now put the motion to the House.

(The motion was carried)

Madam Presiding Officer: The motion is carried and the Bill stands passed. Yes.

Senator Azam Nazeer Tarar: We have to lay these two Money Bills because these are for the information of

the House i.e. Orders No. 8 and 9. It is a Constitutional requirement.

Madam Presiding Officer: Yes, Order No. 8, Senator Muhammad Aurangzeb, Minister for Finance and Revenue, may move Order No. 8. On his behalf Law Minister, please move Order No. 8.

Laying of a copy of the Money Bill the Income Tax (Amendment) Bill, 2025, as required under Article 73 of the Constitution

Senator Azam Nazeer Tarar: On behalf of Minister for Finance and Revenue, I lay before the Senate a copy of the Money Bill the Income Tax (Amendment) Bill, 2025, as required under Article 73 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan.

Madam Presiding Officer: Copy of the Money Bill stands laid. Order No. 9, Senator Muhammad Aurangzeb, Minister for Finance and Revenue, may move Order No. 9. On his behalf Law Minister, please move Order No. 9.

Recommendations by the Senate to the National Assembly on the Money Bill the Income Tax (Amendment) Bill, 2025, as required under Article 73 of the Constitution

Senator Azam Nazeer Tarar: On behalf of Minister for Finance and Revenue, I move that the Senate may make recommendations, if any, to the National Assembly on the Money Bill the Income Tax (Amendment) Bill, 2025, as required under Article 73 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan.

Madam Presiding Officer: The notices for proposals to make recommendations on the Income Tax

(Amendment) Bill, 2025, may be submitted by the Members to the Senate Secretariat by Monday, the 17th February, 2025. No proposals will be entertained after that time, so please note that these recommendations should only be with reference to the Bill. A recommendation having no relevance to the instant Bill is outside the purview of Article 73 and hence not admissible. The proposals received for making recommendations on the Bill, shall be sent to the Senate Standing Committee on Finance and Revenue which shall present its report within a period of 10 days. The Senate would consider the report of the Committee and make its recommendations to the National Assembly.

We have Calling Attention Notices. Yes, Leader of the Opposition.

Motion under Rule 263 moved for dispensation of rules

Senator Syed Shibli Faraz: Yes. I move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 2012, that the requirement of Rules 29, 30 and 133 of the said Rules be dispensed with in order to enable the House to move and pass a resolution.

Madam Presiding Officer: Yes.

Senator Azam Nazeer Tarar: I being a Member of this elected House, have all the respect and regard for the political right of people but at the same time, we must acknowledge the domains determined by the Constitution for different entities, elected Bodies in this country. This is House of the Federation. It is Senate of Pakistan. The matter pertains to Provincial Government.

صوبائی حکومت پنجاب نے اجازت دینی ہے اور کس طرح سے دینی ہے۔ حاجی صاحب! میں نے بھی اس کے لیے intervene کیا ہے۔ spoke to relevant persons, جب مجھے پتا چلا کہ ایمل ولی صاحب کی کوئی درخواست ہے اور اس میں مسئلہ آیا ہوا ہے۔ ایک general policy ہے کہ ایسی جگہیں جہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے اور جہاں پر security, law and order issues ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ملک کے جو سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ بڑے سنگین ہیں تو اس background کو سامنے رکھتے ہوئے انتظامیہ نے لیاقت باغ کی بجائے روات کے لیے request کی، تو اس پر انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم ان کے ساتھ engaged ہیں۔ میری اس House سے صرف اتنی استدعا ہوگی کہ یہ صوبائی معاملہ ہے کل کو ہم اگر خیبر پختونخوا کے کسی جلسے پر یا سندھ کے کسی government decision پر سینیٹ میں resolution move کریں گے اور اسے پاس کریں گے تو میرے خیال میں ہم اچھی روایت قائم نہیں کر رہے۔ اس پر بات ضرور کریں آپ کا sentiment جانا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو افہام و تفہیم سے حل ہونا چاہیے اور لوگوں کے جو political rights ہیں ان کو روکنے کی بجائے اس میں سہولت لانی چاہیے۔ لیکن یہ بات کہ ایک صوبائی حکومت کہتی ہے کہ heart of city میں اگر آپ کوئی جلسہ یا ایسی activity کرتے ہیں تو it may be detrimental to public peace and order in that city اور ہم نے unfortunately ماضی میں یہ دیکھا کہ کتنے ہول ناک حادثے۔۔

(مداخلت)

میڈم پریزائیڈنٹ آفیسر: وزیر صاحب! میری گزارش یہ ہے کہ جو طریقہ ہے، جو resolution آپ نے share کر لی ہے، normally we share the resolutions. The motion is adopted. Leader of the Opposition, please proceed, please move the resolution.

Senator Syed Shibli Faraz: Have you dispensed the rules?

Madam Presiding Officer: Motion under Rule 263 has to be put for dispensation of rules.

سینیٹر سید شبلی فراز: میں نے Motion 263 پڑھ دی ہے۔

Madam Presiding Officer: I put the motion before the House.

(The motion was carried)

Madam Presiding Officer: The motion is adopted. Please move the resolution.

Senator Syed Shibli Faraz: It is democratic right of all political parties including Pakistan Tehreek-e-Insaf to hold peaceful political gatherings, jalsa's and rallies in the territory of Pakistan, as enshrined in Constitution. However, this democratic right to hold peaceful rallies and peaceful political gatherings are being denied by Provincial Administration selectively across the country. This House unanimously demands that all the provincial governments in the territory of Pakistan to abide by the constitution rights and allow peaceful political gatherings and rallies across Pakistan without any distinction. Thank you.

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: جناب! میں اس میں صرف یہ عرض کروں گا we cannot dictate the Provincial Governments, yes we can urge the Provincial Governments to conduct themselves within the bounds of Constitution and in accordance with Law. This is what we can say we can't say that despite the 144 District Administration کے پاس موجود ہیں 144 laws کے legal provision peaceful protest وہاں پر ایک valid Law ہے since ages، ان کی District Administration کے پاس اختیار ہے، میرے خیال میں یہ اگر ہم رسم شروع کریں گے کہ یہاں سے بیٹھ کے ہم صوبائی حکومتوں کو، کل کو آپ کی حکومت ہے آج میری ہے کل کسی اور کی ہوگی۔ ضرور لے لیں، میری صرف یہ استدعا ہے کہ ہم Law Makers ہیں، اس کو صرف اتنا suitably

میڈم پریزائیڈنگ آفیسر: ان کو بات کرنے دیجیے۔ بالکل

we will move as per Rule.

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: سب کا جمہوری حق ہے، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، میں چلا جاتا

ہوں۔

میڈم پریزائیڈنگ آفیسر: منسٹر صاحب آپ اپنی بات ختم کریں، سب ایک دوسرے کا احترام کریں، براہ مہربانی ان کی بات ختم ہونے دیں، آپ کی بھی ہم بات سن رہے ہیں۔

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: میری یہ تجویز ہے کہ اس کی جو wording ہے وہ party specific ہونے کی بجائے general ہونی چاہیے، اس میں بڑے گھر کی politeness نظر آنی چاہیے۔

میڈم پریزائیڈنگ آفیسر: I think that's fine, آپ لوگ amend کر لیں۔

Senator Azam Nazeer Tarar: This House should urge the Provincial Governments to respect the constitutional right of people living there and their right of protest must be recognized and respected subject to the Constitution and Law.

میرے خیال میں یہ بڑی جائز بات ہے اگر ایوان اس پر agree کرتا ہے تو اسے unanimously کر لیتے ہیں۔

Madam Presiding Officer: Leader of the Opposition I think that is the fair request and we can move the resolution.

Senator Syed Shibli Faraz: You know this has to be put to vote.

Madam Presiding Officer: We will.

سینیٹر سید شبلی فراز: آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں ہم کوئی غیر قانونی، غیر جمہوری کر رہے ہوں، ہر چیز peaceful ہے، ہر ایک کو حق ہونا چاہیے اور یہ issue سینیٹر ہدایت اللہ نے اٹھایا تھا، ہم تو اس کو کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ایوان کا sense لے لیں۔ اس سے پہلے یہ ہوا ہے، کہ آپ تقاریر کریں۔

Madam Presiding Officer: Leader of the opposition, we will move according to the rule

مگر ایک گزارش تھی کہ آپ ذرا تحمل سے سنیے کیونکہ آپ کی بات میں بھی وزن ہے کہ جو بھی resolution ان 20 سالوں میں میں نے اس House میں دیکھا ہے، کسی House میں بھی much longer and prudence سے پہلے consensus ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ پانچ منٹ میں یا دو منٹ میں اس پر joint language بنا لیں تو اس House کا وقار اور بھی بڑھے گا اور آپ کی بات میں بھی وزن بڑھے گا۔

He is agreeing Law Minister.

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: آپ سامنے رکھ لیں میں پڑھ دیتا ہوں، تو اس پر اعتراض ہو تو بالکل۔
میڈم پریزائیڈنٹ آفیسر: آپ پڑھیے، ممبران سن لیں۔

Senator Azam Nazeer Tarar: I suggest that it is democratic right of all political parties to hold peaceful political gatherings and rallies in the territory of Pakistan, آپ نے یہی کہا ہے اور آپ نے to ہی لکھا ہے۔ میں صرف کہ رہا ہوں کہ party pacific نہ کریں۔

It is democratic right of all political parties to hold peaceful political gatherings jalsas and rallies in the territory of Pakistan, as enshrined in the Constitution. However, this democratic right to hold peaceful rallies and peaceful political gatherings are being denied by Provincial Administrations selectively across the country. This House unanimously demands that all the provincial governments in the territory of Pakistan to abide by the constitutional rights and allow peaceful political gatherings and rallies across Pakistan as per Law and Constitution.

اس میں بتائیں کون سی بات غلط ہے۔

میڈم پریزائیڈنگ آفیسر: جی mic on کر دیں۔ آپ کے Parliamentary Leader بول رہے ہیں۔

سینیٹر سید علی ظفر: بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے یہ لکھا ہے اور وجہ یہ ہے کہ current situation میں جو government parties ہیں ان پر تو کوئی restriction نہیں ہے to hold rallies but PTI is a specific political party اس resolution is more current specific رہی ہیں۔ تو rallies یہ نہیں نکال سکیں گے، ہم نے لکھا ہے کہ it is democratic right of all political parties including PTI. So PTI emphasis دیا ہے۔ میڈم پریزائیڈنگ آفیسر: Move تو پھر ANP نے بھی کیا تھا، تو اس لیے بہتر ہوگا اگر۔

Senator Syed Ali Zafar: We would like you to stick to this resolution.

آپ House کا sense لے لیں۔

(اس موقع پر ایوان میں کورم کی نشان دہی کی گئی)

Madam Presiding Officer: Alright, I have no option but have to, Count be made.

آپ نے کورم point out کیا ہے

count to be made. Law Minister please hold your horses; Count has to be made.

(Count was made)

میڈم پریزائیڈنگ آفیسر: کورم پورا ہے، بہت شکریہ، carry on. Parliamentary Leader of ANP Senator Haji Hidayatullah Khan کا mic on کیجیے۔ Law Minister Sahib حاجی صاحب کو سن لیں جنہوں نے originate کیا تھا۔

Senator Hidayatullah Khan

سینیٹر ہدایت اللہ خان: بہت شکریہ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے کل کہا تھا کہ یہ احتجاجی جلسہ تھا، یہ احتجاجی جلسہ نہیں تھا۔ میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان دو عظیم ہستیاں

جنہوں نے برصغیر پاک و ہند کی آزادی کے لیے بہت بڑی قربانیاں دیں تھیں اور اس میں یہ واضح بات ہے کہ فخر افغان باچا خان بابا نے ہمیشہ کے لیے عدم تشدد اور non violence کی بات کی تھی۔ انہوں نے اپنے سارے ارشادات میں اس میں عدم تشدد کے فلسفے کو اپنانے کا کہا ہے۔ اگر آج تاریخ میں لوگ Nelson Mandela کو یاد کرتے ہیں تو Nelson Mandela بھی اس کی تقلید کرتے تھے اور ہندوستان کے گاندھی جی نے بھی عدم تشدد کا فلسفہ ہمارے باچا خان بابا سے سیکھا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے یہ باچا خان بابا سے سیکھا ہے۔ باچا خان بابا نے یہ بات کہی تھی کہ عدم تشدد کا فلسفہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کے لیے بہت محترم ہے اور اس لیے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ میڈم! میں یہ کہنا چاہتا ہوں چونکہ وہ ایک برسی تھی۔

(مداخلت)

سینیٹر ہدایت اللہ خان: اگر یہ میری بات سن لیں، بعد میں آپ بات کریں۔

میڈم پریذائڈنٹ آفیسر: جی سن رہے ہیں، آپ آگے بولیں۔

سینیٹر ہدایت اللہ خان: دو عظیم ہستیوں کی برسی کی مناسبت سے جلسہ ہو رہا تھا، ایک اجتماع ہو رہا تھا۔ اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جلسہ ہو رہا تھا یہ نہیں کہ وہ کوئی احتجاجی جلسہ تھا یا ہم نے کوئی call دی تھی کہ ہم جلسہ کر رہے ہیں۔

(مداخلت)

میڈم پریذائڈنٹ آفیسر: فاضل سینیٹر صاحب آپ اجازت دیں نہیں تو business ختم

نہیں ہو پائے گا۔ آپ کی حمایت میں ہی ساری بات ہو رہی ہے۔

سینیٹر ہدایت اللہ خان: میں ایک بات اور پوچھتا ہوں کہ اگر یہ ہمیں بتادیں کہ پنجاب

پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو ہم نہیں آئیں گے۔

میڈم پریذائڈنٹ آفیسر: سینیٹر صاحب اس بات پر agreement ہو گیا ہے، آپ

تشریف رکھیں۔

سینیٹر ہدایت اللہ خان: لوگوں نے تیاریاں کی تھیں اور وہ لوگ پورے پنجاب سے آرہے

ہیں۔ لیاقت باغ کوئی ممنوع area نہیں ہے۔

میڈم پریذائینڈنٹ آفیسر: چلیں آپ move کریں۔

**Resolution moved by Senator Azam Nazeer Tarar,
Minister for Law and Justice, Urging the Provincial
Government to abide by the Constitutional rights and
allow peaceful political gatherings and rallies across
Pakistan**

amendments سینٹر اعظم نذیر تارڑ: آپ سب کی اجازت سے میں نے جن request کی تھی۔ Leader of the Opposition نے کہا ہے کہ وہ مناسب بات ہے کیوں کہ ہماری کوئی resolution بھی persons-specific or party-specific نہیں ہوتی۔ آج ہم ادھر بیٹھے ہیں اور کل کو ہم نے بھی ادھر جانا ہے۔ ہم نے بھی یہی بھگتا ہے جو آج چل رہا ہے۔

(مداخلت)

سینٹر اعظم نذیر تارڑ: نہیں، کیوں کہ ان شاء اللہ یہ جمہوریت کا ہو گا یا نہیں ہو گا یہ جمہوریت کا حسن ہے اور ہر چیز میں ہمیں صرف ضد کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور یہی سیاست کی خوبصورتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ generalized ہو، I put the amendment جو میں نے کہا ہے، اب میں نے یہ جس form میں دوستوں کو suggest کیا تھا۔

It is democratic right of all political parties to hold peaceful political gatherings and rallies in the territory of Pakistan as enshrined in the Constitution. However, this democratic right to hold peaceful rallies and peaceful political gatherings are being denied by provincial administrations selectively across the country. This House unanimously demands that all provincial governments in the territory of Pakistan to abide by the Constitutional rights and allow peaceful political gatherings and rallies across Pakistan. What is wrong?

Madam Presiding Officer: I, now put the Resolution before the House.

(The motion was carried)

Madam Presiding Officer: Congratulations that this House passed a pro-democracy Resolution with no dissent. Now for Order No. 17. Calling Attention Notice, Yes Minister Sahib.

سینیٹر اعظم ندیر تارڑ: اگر آپ reports سے شروع کر لیں۔

Madam Presiding Officer: Order No. 03, Senator Syed Ali Zafar, Chairman, Standing Committee on Information and Broadcasting, please move Order No.03.

**Motion under Rule 194(1) moved by Chairman,
Standing Committee on Information and Broadcasting
on [The Protection of Journalists and Media
Professionals (Amendment) Bill, 2022]**

Senator Syed Ali Zafar: I, Syed Ali Zafar, Chairman, Standing Committee on Information and Broadcasting, move under sub-rule (1) of Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 2012, that the time for presentation of report of the Committee on a Bill to amend the Protection of Journalists and Media Professionals Act, 2021 [The Protection of Journalists and Media Professionals (Amendment) Bill, 2022], introduced by Senator Saleem Mandviwalla on 31st January, 2022, may be extended for a period of sixty days with effect from 25th November, 2024.

Madam Presiding Officer: I now put the Motion before the House.

(The motion was carried)

Madam Presiding Officer: The Motion is carried. Order No.04, Senator Syed Ali Zafar, Chairman, Standing Committee on Information and Broadcasting, please move Order No.03.

**Presentation of Report of the Standing
Committee on Information and Broadcasting on [The
Protection of Journalists and Media Professionals
(Amendment) Bill, 2022]**

Senator Syed Ali Zafar: I, Senator Syed Ali Zafar, Chairman, Standing Committee on Information and Broadcasting, present report of the Committee on a Bill to amend the Protection of Journalists and Media Professionals Act, 2021 [The Protection of Journalists and Media Professionals (Amendment) Bill, 2022], introduced by Senator Saleem Mandviwalla on 31st January, 2022. I just want to say that this law which is for the protection of the Journalists who are facing violence every day of their lives and I think I owe my thanks to Senator Saleem Mandviwalla who actually put this Bill and made the relevant efforts and then of course the Committee Members who contributed to this. I think this is a game changer for our friends who are seeking the truth sitting up there. So, I expect that this would be put before the House very quickly.

Madam Presiding Officer: Yes, Report stands laid. Order No.05, Senator Rana Mahmood Ul Hassan, Chairman, Standing Committee on Cabinet Secretariat, on his behalf Senator Saadia Abbasi, please move Order No.05.

**Presentation of Report of the Standing Committee on
Cabinet Secretariat on [The Service Tribunals
(Amendment) Bill, 2024], (Amendment of section 4)**

Senator Saadia Abbasi: I, Senator Saadia Abbasi on behalf of Senator Rana Mahmood Ul Hassan, Chairman, Standing Committee on Cabinet Secretariat, present report of the Committee on a Bill further to amend the Service Tribunals Act, 1973 [The Service Tribunals (Amendment) Bill, 2024], (Amendment of section 4) introduced by Senator Shahadat Awan on 1st January, 2024.

Madam Presiding Officer: Report stands laid. Order No.06, Senator Saleem Mandviwalla, Chairman, Standing Committee on Finance and Revenue, please move Order No.06. We can't hear you; your Mic is still not on. Please put his Mic on. Senator you are not on your seat. You will have to be on your seat to read the Report, thanks.

**Presentation of Report of the Standing Committee on
Finance and Revenue on [The State-Owned Enterprises
(Governance and Operations) (Amendment) Bill, 2024]**

Senator Saleem Mandviwalla: I, Senator Saleem Mandviwalla, Chairman, Standing Committee on Finance and Revenue, present report of the Committee on a Bill further to amend the State-Owned Enterprises (Governance and Operations) Act, 2023 [The State-Owned Enterprises (Governance and Operations) (Amendment) Bill, 2024], introduced by Senator Anusha Rahman Ahmad Khan on 4th November, 2024.

Madam Presiding Officer: Report stands laid. Order No.07, Senator Saleem Mandviwalla, Chairman, Standing,

Committee on Finance and Revenue, please move Order No.07.

Presentation of Report of the Standing Committee on Finance and Revenue on a Starred Question regarding “the names, designations and place of domicile of the employees appointed in the Agricultural Development Bank during the last ten years”.

Senator Saleem Mandviwalla: I, Senator Saleem Mandviwalla, Chairman, Standing Committee on Finance and Revenue, present report of the Committee on the subject matter of Starred Question No. 39, asked by Senator Abdul Shakoor Khan, on 1st November, 2024, regarding “the names, designations and place of domicile of the employees appointed in the Agricultural Development Bank during the last ten years”.

Madam Presiding Officer: Report stands laid.

میرے خیال سے Order No. 08, already ہو گیا ہے۔

So we can now move to the Calling Attention Notice.

(مداخلت)

میڈم پریذائینڈنگ آفیسر: جی.17 Order No.17 کی deferral نہیں ہے، اس کو

ختم ہونے دیں، وزیر صاحب یہاں پر ہیں۔

I am proceeding with Order No.17. There is a Calling Attention Notice at Order No.17, in the name of Senator Poonjo, please raise the matter.

Calling Attention Notice moved by Senator Poonjo regarding imposition of toll tax without completion of 17 kilometers road from Rajarasti to Umerkot

Senator Poonjo: I, Senator Poonjo Bheel, draw attention of the Minister for Communications towards

imposition of toll tax without completion of 17 kilometers Road from Rajarasti to Umerkot despite passage of four years since the start of construction in 2021 against the scheduled completion time of six months.

میڈم پریذائینڈنگ آفیسر: سینیٹر صاحب آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟
 سینیٹر پونجو: جی میڈم! سب سے پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی جو آپ نے مجھے توجہ دلاؤ نوٹس پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں جس روڈ کی بات کر رہا ہوں میں اس سے پہلے بھی ایوان میں اس مسئلے کو raise کر چکا تھا کہ یہ روڈ ابھی تک نہیں بنا۔ پہلے تو کافی عرصہ، جو pervious government تھی، آج ہمارے دوست جو right side پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو اسی زمانے میں روڈ کے کچھ حصے کا tender ہوا تھا۔ وہاں کے ایک MNA نے وہ tender کروایا تھا اور پھر انہی کی computation کے درمیان ان contractor سے کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے court case کر دیا تھا۔ کافی عرصہ سے یہ کام بند رہا لیکن یہ کام جوں کا توں موجود ہے اور آگے نہیں بڑھا ہے۔ اس سے بھی آگے یہ کام ہوا ہے کہ ابھی road بنی نہیں ہے اور toll tax collect کرنا بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ہم کوئی اس tax کے خلاف نہیں ہیں بلکہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں ملک میں اگر کوئی اس قسم کی سڑکیں بن رہی ہیں تو ان پر toll tax ہونا چاہیے اور لوگ جب ان سے فیض یاب ہوتے ہیں تو انہیں tax بھی دینا چاہیے لیکن میڈم! عرض یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی double carriage road بھی نہیں ہے اور جو road موجود ہے اس کی بھی خستہ حالت ہے۔ ابھی تک وہ مکمل بھی نہیں ہے اور اس سے پہلے ہی انہوں نے toll tax وصول کرنا شروع کر دیا ہے۔

وہاں کے مقامی لوگ اس پر سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور اس پر احتجاج اور agitation کر رہے ہیں۔ وہاں پر اتنی زیادہ traffic بھی نہیں ہے اور آس پاس چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں۔ ان گاؤں کے لوگ جیسے کہ عمر کوٹ، راجاراستی، صوفی فقیر اور اس کے ساتھ اٹھتر موری، جھڑاؤ میر پور خاص تک یہ میرا خیال ہے کہ 80 kilometers لمبی سڑک ہے لیکن اس سڑک کی پہلے ہی condition بہتر نہیں ہے۔

تو میں وزیر مواصلات صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ پہلے آپ یہ سڑک بنا لیں اور جب اچھی سڑک بن جائے گی تو اس کے بعد اگر toll tax والا کوئی سلسلہ کریں تو بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں یہ request کروں گا کہ یہ ایک دیہاتی سڑک ہے اور اس پر کسی قسم کی ایسی communication نہیں ہوتی جس سے کہ کوئی بھاری تعداد میں income ہوتی ہو۔ یہ دیہاتی لوگوں کا چھوٹے چھوٹے گاؤں تک کا سفر ہوتا ہے تو لہذا مہربانی کر کے تب تک اس پر toll tax کو آپ ملتوی کر دیں اور اس کے بعد جب سڑک کی کوئی بہتر condition ہو جائے تو پھر اس پر toll tax کو carry on کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔

چونکہ منسٹر صاحب یہاں موجود ہیں تو میں یہ request کروں گا کہ مہربانی کر کے اس قسم کی road پر اس قسم کا tax لینا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ یہاں آس پاس کے علاقے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جن کی آبادی بہت کم ہے۔ اس کو آپ نظر میں رکھیں۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو بہت مہربانی ہوگی۔

میڈم پریذائیڈنٹ آفیسر: جی فاضل منسٹر۔

Mr. Abdul Aleem Khan (Minister for Privatization)

جناب عبدالعلیم خان (وزیر برائے نجکاری): میڈم پریذائیڈنٹ آفیسر! جو ہمارے معزز سینیٹر بھائی نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس سڑک کی condition اچھی نہیں ہے تو وہاں پر tax نہیں بنتا، نہ toll بنتا ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز لیکن مجھے جو اس کی figures دی گئی ہیں اس کے مطابق جو NHA total length کے پاس ہے یہ میر پور خاص سے کھوکھر و پارتنک 154 kilometers ہے۔ اس 154 kilometers میں ہمارے پاس وہ section جس کا ذکر میرے بھائی نے کیا ہے وہ 17 kilometers ہے۔ وہ 17 kilometers اس لیے تیار نہیں ہو سکا کہ اس پر 2021 سے cases چل رہے تھے۔ خود ہی court میں جاتے ہیں اور اس پر ایک بار 2021 میں tendering ہوئی پھر اس کے بعد 2022 میں اس پر کام خود رک گیا۔ 2023 میں contractor صاحب court میں چلے گئے۔ پھر اس پر stay آگیا۔ پھر دوبارہ اس کا stay vacate ہوا۔ پھر دوبارہ اس پر stay آگیا اور اب اسی مہینے ہم اس پر کام شروع کر رہے ہیں اور مجھے بتایا گیا ہے کہ تین مہینے میں

that 17 kilometers portion will be completed.

تو میں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی details لے لیتا ہوں۔ اگر یہ اُس 17 kilometers کے اندر ہے تو میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آج ہی اس کو ختم کروا دیتا ہوں۔ اگر یہ ان 17 kilometers کے علاوہ کسی جگہ پر لگا ہوا ہے تو وہ total 154 kilometers ہے اور اس 154 kilometers میں کسی جگہ پر بھی ہمارا gap between one toll plaza to another toll plaza is minimum 35 kilometers. تو یہ اگر اس کے درمیان میں آگیا ہے اور اس جگہ پر ہے جہاں ان کا 17 kilometers کا portion بھی تیار نہیں ہوا۔ تو جب تک وہ تیار نہیں ہوگا تو وہاں پر toll نہیں لگے گا۔

میڈم پریذائڈنگ آفیسر: یہ جو تکلیف دہ التوا اور interruption اس پورے 154 kilometers میں ہوئی ہے، جن میں ان کے بھی 17 kilometers شامل ہیں، تو اگر آپ اُس کی التوا ختم کر رہے ہیں اور آپ assurance دے رہے ہیں کہ تین مہینے میں تعمیر نو شروع ہو جائے گی تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ اس toll tax کا issue بھی discuss کر لیں۔ اگر منسٹر صاحب نے آپ کو کافی assurance دے دی ہے تو سینیٹر صاحب! اس کے بعد calling attention پر پھر مزید discussion نہیں ہوتی۔

(مداخلت)

میڈم پریذائڈنگ آفیسر: جی نہیں، آپ کی بھی بات ایک دفعہ ہو گئی ہے اور منسٹر صاحب کی بھی۔ اب آپ آکر ان سے بات کر لیں۔

سینیٹر پونجو: منسٹر صاحب کو جو کچھ بتایا گیا ہوگا، حقیقت میں ایسا ہے نہیں۔ میں تو یہ portion عمر کوٹ تک بتا رہا ہوں جس میں 17 kilometers کی construction نہیں ہوئی ہے لیکن یہ تو کھوکھرو پار تک بھی نہیں بنی ہے اور اس پر پہلے سے انہوں نے جو tax وصول کرنا شروع کر دیا ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو توفی الفور ختم کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا آپ کے department والے جو فرما رہے ہیں وہ درست ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو آپ کمیٹی میں refer کر دیں۔

میڈم پریذائڈنگ آفیسر: جی ٹھیک ہے۔ اس میں اگر کوئی ابہام رہ گیا ہے تو

I will refer it to the Committee to monitor the situation if that is alright with you Mr. Minister.

جناب عبدالعلیم خان: ٹھیک ہے جی۔

This matter stands referred to the Committee Standing Committee on Communications اس پر نظر ثانی کرے اور اس issue کو monitor کر کے جواب دہی کا عمل یقینی بنائے کہ یہ کام یقینی طور پر ہو رہا ہے کہ نہیں۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب، آپ کا اس میں بہت مثبت جواب تھا۔ جی تارڑ صاحب۔

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: بات ہو رہی تھی تو سینیٹر ظفر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے بولنا چاہتے ہیں۔ میں پھر اپنی بات یہیں روک دیتا ہوں۔ آپ بسم اللہ کریں۔ اگر میں موجود نہ ہوا تو عرفان صدیقی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہی اکٹھا جواب دے دیں گے۔

(مداخلت)

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: شعر سنائیں۔

میڈم پریذائینڈنگ آفیسر: ابھی کامران مرتضیٰ صاحب کا بھی mic on تھا۔ Barrister sahib if you don't mind, کیا کامران مرتضیٰ کو بات کرنے دیں، وہ کافی دیر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کر لیجئے گا۔ Law Minister, please no cross talk. آپ ان کو بات کرنے دیں۔

Point of public importance raised by Senator Kamran Murtaza regarding killing of labourers in Balochistan

سینیٹر کامران مرتضیٰ: میڈم پریذائینڈنگ آفیسر، ہم روز یہاں law and order کی situation پر بات کرتے ہیں اور روز اس House میں آپ کی توجہ مبذول کرواتے ہیں۔ آج پھر ایک افسوس ناک حادثہ کہہ لیں یا اس کو دہشت گردی کا واقعہ کہہ لیں، وہ بلوچستان میں مزدوروں کی گاڑی کے ساتھ ہوا ہے جس میں کم از کم گیارہ لوگ شہید ہوئے ہیں اور سات لوگ زخمی ہیں اور سڑک پر گزرتی گاڑیوں کے ساتھ ایسا ہونا اور دیگر معاملات اب روز کا معمول بن گیا ہے۔

آپ سے عرض یہ ہے کہ کسی ایک دن کم از کم دونوں صوبوں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن وامان کے مسئلے پر discussion رکھ لیں۔ گو کہ امن وامان کا مسئلہ صوبائی ہے لیکن وہاں پر Federal forces بھی involve ہیں۔ یہ ہمارا concern ہے اور یہ House of the Federation ہے۔ وہاں سے روز شہادتوں کی اطلاع آتی ہے۔ کیا ہم نے یہاں صرف دعا کروانی ہے یا کوئی دوا بھی کرنی ہے۔ میں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ روز کا واقعہ بن گیا ہے۔ ہر روز سڑکیں بند اور ہر روز سڑکوں پر دہشت گردی ہو رہی ہے۔ کیا معاملات اسی طرح چلیں گے؟

میڈم پریذائینڈنگ آفیسر: بہت شکریہ۔ جی پیر سٹر صاحب۔

Points of public importance raised by Senator Syed Ali Zafar regarding

i) IMF meeting with Chief Justice of Supreme Court of Pakistan

ii) PECA Act and iii) Judges seniority issue

سینیٹر سید علی ظفر: بہت شکریہ میڈم پریذائینڈنگ آفیسر! میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور یہاں جتنے بھی ہمارے سینیٹر صاحبان موجود ہیں، تمام کے لیے پاکستان، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کا وقار، پاکستان کی خود مختاری پر کسی قسم کا compromise نہیں ہو سکتا۔ میری پارلیمنٹ اور میری judiciary، یہ بھی ہمارے ہی institutions ہیں اور ان کا بھی وقار، ان کی آزادی اور ان کی خود مختاری بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ پاکستان کی ہے۔ اگر کوئی بھی ملک یا کوئی بھی ادارہ ان دونوں institutions یعنی پارلیمنٹ یا judiciary کی خود مختاری، sovereignty، reputation، monitoring and regulation کی کسی قسم کی منظور نہیں ہے۔ یہ ہر شہری کا ایک اصولی فیصلہ اور principle ہے جس پر ہم تمام قائم ہیں۔

بد قسمتی سے حکومت پاکستان نے، اس کو مجبوری کہہ لیں، IMF سے loan لیا اور اس loan agreement میں ایک شق ڈال دی کہ IMF آپ کی عدلیہ کو regulate کر سکتا ہے۔ اس شق کا جو مفہوم یا مطلب یہ ہے کہ وہ عدلیہ کو regulate کر سکتا ہے۔ یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی IMF کے بہت سارے programmes آئے ہیں لیکن

آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی ادارے کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ جا کر Chief Justice of Pakistan کو پوچھے کہ آپ کا نظام کیسا ہے جس طرح ایک school monitor ہے۔ صرف قرضہ لینے کے شوق اور اس کے pressure میں آ کر معاہدہ کر لیا جس میں IMF کو یہ حق دے دیا کہ وہ ہمارے ہی Chief Justice of Pakistan سے پوچھیں کہ آپ کی عدلیہ کا نظام کیسا ہے۔ آپ سوچ سکتی ہیں کہ ہمارا ادارہ America or England اور یا کسی اور ملک میں جائے گا اور وہاں جا کر ان سے کہے گا کہ جناب چیف جسٹس صاحب آپ بتائیں کہ آپ کا نظام کیسا چل رہا ہے۔ جب یہ ذمہ داری ایک institution پر ڈال ہی دی کیونکہ پاکستان کا جو بھی institution ہے، اب اس کو مجبوراً اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ Chief Justice صاحب کو مجبوراً ملنا پڑا، اس لیے ملنا پڑا کہ حکومت نے request کی، یہ record کی بات ہے، حکومت نے request کی کہ آپ جا کر مل لیں، ان کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑی۔ پاکستان کا جو بھی institution ہے، اس کو ذمہ داری نبھانی پڑے گی کیونکہ حکومت نے اگر کوئی معاہدہ کر لیا ہے تو ہر institution کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پابندی کرے۔

جناب! اب IMF نے Judicial Commission کو بھی ملنا ہے، ECP کو بھی ملنا ہے اور سب کو دیکھنا ہے لیکن یہ ایک مثال بن چکی ہے اور اب یہ مثال ایسی ہے کہ اگلی حکومتوں کو بھی اس مثال کی وجہ سے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ میں اس حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، اس کی sovereignty کو نقصان پہنچایا اور اس کی خود مختاری کو نقصان پہنچایا۔ میرا پہلا point یہ ہے کہ کل Law Minister صاحب نے فرمایا کہ وہاں ایک Judicial Commission ہے اور شاید IMF Judicial Commission کو ملنے گیا تھا، یہ بات درست نہیں ہے، Judicial Commission ایک ادارہ ہے جو قانون سازی نہیں کرتا لیکن suggestions دیتا ہے تو اس سے ملنے کے لیے اس Commission کے Chairperson or Head سے مل سکتے ہیں۔ Chief Justice of Pakistan سے جو ملاقات کی گئی، اس سے ہماری Judiciary کی آزادی کا نقصان ہے، میں اس کی ذمہ داری حکومت پر ڈالتا ہوں۔

کیا جا رہا ہے، کیا جائے گا اور اس کا یہی aim and intention ہے۔ آپ نے freedom of protest کو ختم کر دیا، آپ نے اظہار رائے کا حق ختم کر دیا۔ اگر کوئی بھی اختلاف کرے تو آپ نے جیل میں ڈالنا شروع کر دیا اور آپ اس کی وجہ سے نفرتوں کا طوفان بڑھا رہے ہیں۔ محترمہ چیئر پرسن! میں آپ کو ایک بات بتا دوں اور آپ record پر رکھ لیں کہ جب آپ لوگوں کو کوئی platform نہیں دیں گے، کوئی space نہیں دیں گے کہ جہاں پر لوگ اپنا اظہار رائے کر سکیں تو وہ پھر physical ہوں گے۔ وہ پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، پھر chaos ہو گا، پھر جمہوریت ختم ہوگی اور یہ PECA اس کا پہلا step ہے۔

محترمہ چیئر پرسن! حکومت والے بڑا interestingly کہہ رہے ہیں جب media نے PECA پر بڑا شور مچایا تو حکومت نے کہا کہ آپ آئیں اور بات کر لیں۔ ایک محاورہ ہے کہ ”سنگا لٹی بہتی ہے“ اور اس situation میں یہ جو بحث ہے کہ آپ پہلے قانون سازی کر لیں اور پھر آپ بات کریں، یہ تو اس محاورے کی بالکل ایک مثال ہے۔ آپ پہلے کسی کو ماریں اور پھر کہیں کہ اچھا، میں آپ کو کیوں مار رہا ہوں، یہ اس طرح نہیں ہوتا، پہلے آپ debate کرتے اور آپ stakeholders سے discuss کرتے اور پھر قانون سازی کرتے ہیں تو یہ کہنا کہ ہم نے قانون بنا لیا ہے، اگر اس میں غلطیاں ہیں تو اب آکر آپ بتائیں تو اس سے نیت صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ censorship کے لیے ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ قانون کیوں bulldoze کیا گیا؟ یہ میرا دوسرا point تھا۔

میں تیسرا اور اہم point raise کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 26th amendment Parliament میں misuse کیا جائے گا اور اس کو غلط استعمال کیا جائے گا۔ میں بہت مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ 26th amendment میں کیا خرابیاں ہیں، میں آج کے دن اس کی نشان دہی نہیں کروں گا۔ آج کے دن اس کا جو practical impact ہو رہا ہے اور اس کا جو اثر ہے جو 26th amendment کا نتیجہ ہے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں seniority کا issue ہے جو ایک مسئلہ اسلام آباد میں seniority of Judges کا ہے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔

Seniority کا معاملہ ہو تو چاہے Judges کی seniority ہو، چاہے civil servants کی seniority ہو یا چاہے کسی بھی ملازم کی seniority ہو تو اس میں سیاست نہیں ہوتی۔ اس میں انصاف کا تقاضا پورا کرنا پڑتا ہے۔ بد قسمتی سے اسلام آباد میں Judges کی seniority کا issue ہے، اس میں سیاست کی بو آ رہی ہے۔ محترمہ چیئر پرسن! کیا ہوا، یہ ہوا کہ یکم فروری 2025 کو ایک notification جاری کیا گیا۔ Notification میں جو تین مختلف جج صاحبان تھے، ایک لاہور ہائی کورٹ، ایک سندھ ہائی کورٹ اور ایک بلوچستان ہائی کورٹ کے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں transfer کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئین کے Article-200 کے تحت transfer کیا گیا۔ کوئی حرج نہیں transfer ان کا حق ہے۔ آئین کے Article-200 کے تحت transfer کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پانچ sitting جج صاحبان جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔

جناب چیئر پرسن! اعتراض اس لیے کیا کہ ان کو شک تھا کہ یہ transfer ان کی seniority پر اثر انداز ہونے لگی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی seniority affect ہونی ہے کیونکہ حکومت اور جن کے پاس اختیار ہے ان کو شاید یہ پانچ جج صاحبان پسند نہیں تھے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک roster جاری کیا گیا اور واقعی ہی جو جج صاحب لاہور ہائی کورٹ سے آئے تھے جن کا No.13 seniority تھا یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ کافی junior تھے وہ اب senior most ہو گئے اور جو پانچ sitting جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے وہ ان سے junior ہو گئے۔ جب یہ ہوا تو چار Supreme Court of Pakistan کے sitting judges نے بھی یہی اعتراض اٹھایا۔ انہوں نے بھی کہا کہ جناب! یہ کیا ہو رہا ہے آپ کہیں سے transfer کر رہے ہیں کسی کو senior بنا رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے بھی خط لکھا۔

26 ویں ترمیم میں ایک JCP بنی ہے۔ Judicial Commission of Pakistan آئینی ادارہ ہے، اس کا کام ہے کہ وہ Supreme Court کے judges کو appoint کرے اور Lahore High Court کے Chief Justice کا بھی فیصلہ کرے۔ جو seniority کا roster جاری ہوا ہے اس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب مسئلہ پڑ گیا۔ جناب چیئر پرسن! مسئلہ کیا پڑا جو ہائی کورٹ کے Chief Justice کی تعیناتی ہونی ہے اس کا جو گروپ

ہے یا جن لوگوں میں ہونی ہے اس میں سے جو sitting judges ہیں وہ نکل گئے اور جو transfer judges تھے وہ آگئے یعنی کہ جو Lahore High Court سے transfer ہو کر آئے وہ چونکہ senior most ہو گئے تو وہ اب Islamabad High Court کے judges بھی بن سکتے تھے اور وہ Supreme Court of Pakistan کے judge بھی بن سکتے تھے۔ جب یہ دیکھا تو میں نے بھی ایک خط لکھا اور JCP کو کہا کہ آپ اپنی meeting کو postpone کر دیں تاکہ یہ مسئلہ پہلے حل ہو جائے کہ senior کون ہے اور جو حق دار ہے اس کو Chief Justice کے طور پر اور Supreme Court کے judge کے طور پر ہم اس کو choose کر سکیں۔ بہر حال وہ postpone نہیں ہوا اور ابھی تک یہ مسئلہ ہوا میں ہے۔ اب ہمارے issues کیا ہیں؟ اس seniority کا نقصان کیا ہے؟

میڈم پریذائڈنگ آفیسر: سینیئر صاحب آپ کی پندرہ منٹس سے زیادہ بات ہو گئی ہے، باقی ممبران نے بھی بات کرنی ہے۔ please wind up کر دیں۔ شکریہ۔
سینیئر سید علی ظفر: میں wind up کر رہا ہوں، بالکل کر رہا ہوں۔ لیکن یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس میں کوئی ہمارا نہیں یہ institution کا مسئلہ ہے۔

Madam Presiding Officer: You have spoken for fifteen minutes. Please wind up. Thank you

سینیئر سید علی ظفر: اس میں مسئلے کیا ہیں؟ سب سے پہلا seniority کا issue آتا ہے جو Supreme Court کے چار جج صاحبان نے لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب! judicial packing کی جارہی ہے۔ آپ کو یاد ہو گا مولوی تمیز الدین کیس، آپ کو یاد ہو گا Governor General reference اس میں کیا ہوا تھا justice Munir sahib کو چارج صاحبان کے اوپر seniority دے دی تھی، ایک جج صاحب جو فیڈرل کورٹ کے تھے ان کو گورنر بنا کر East Pakistan بھیج دیا گیا تھا اور ایک ad-hoc judge کو لاہور ہائی کورٹ سے فیڈرل کورٹ میں لگا دیا گیا تھا۔ اس فیڈرل کورٹ نے مولوی تمیز الدین کیس میں کیا فیصلہ کیا تھا اور اس کے بعد Dosso case میں کہ آئین جو ہے وہ ختم ہے doctrine of necessity درست قانون ہے اور اس کے بعد جمہوریت چلی گئی تھی۔

اسی طرح نصرت بھٹو کیس ہوا تھا، اس میں کیا ہوا، آئین کو ختم کر دیا گیا اور as a result ایک آپ ہی کے پارٹی لیڈر بھٹو صاحب کو hang بھی کر دیا۔ اسی طرح حاجی سیف اللہ کیس ہوا مشرف صاحب آئے، جب بھی آپ قانون اور seniority کو غلط استعمال کریں گے اس طرح کے results ہوں گے۔ یہ جو چار Supreme Courts کے judges ہیں انہوں نے لکھا یہ seniority سے judicial packing کر رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟

آپ نے دوسرا نقصان یہ کیا کہ جو جج صاحبان جن کو transfer کیا ان کو بھی آپ نے controversial بنا دیا۔ ان کے اوپر بھی لوگ انگلیاں اٹھانے لگے کہ ان کو transfer کس وجہ سے کیا۔ ان کی بھی جو reputation تھی اس کو آپ نے نقصان پہنچا دیا۔ تیسرا یہ جو seniority کا issue ہے، ہم سارے قانون دان ہیں اور قانون سازی کرتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ باقی Provincial High Courts سے مختلف ہے۔ جناب چیئر پرسن! آپ آئین کا Article-1, 175, 175-A پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ باقی ہائی کورٹس سے مختلف ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی oath بھی مختلف ہے۔ Oath گورنر کی یعنی ہوگی Provincial کی۔۔۔۔۔

میڈم پریذائینگ آفیسر: شکریہ، شکریہ۔

سینیٹر سید علی ظفر: نہیں، ابھی نہیں، پانچ منٹ جی۔ صرف پانچ منٹ۔

میڈم پریذائینگ آفیسر: نہیں، its 18 minutes, جی، آپ پھر اس پر کسی instrument کے تحت move کر لیں۔ نہیں پانچ منٹ بہت زیادہ ہیں۔ ایوان میں بھی نماز کا وقفہ ہو جاتا ہے۔ House adjourn ہو جائے گا،

please allow others to speak. Five minutes is too long now.

Senator Syed Ali Zafar: Three minutes, public perception.

Madam Presiding Officer: Now you are winding up in exactly 20 minutes, it's very long.

سینیٹر سید علی ظفر: public perception بہت ضروری ہے۔ public perception کیا ہو رہی ہے کہ یہ سارے کا سارا nexus یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں Chief Justice بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کا nexus عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے cases کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو appeals pending ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور ہم یہ record پر بات کر رہے ہیں۔

میڈم پریذائڈنگ آفیسر: 40 seconds now, wind up: جلدی اپنے points, don't takes so long, make your points in 40 seconds.

سینیٹر سید علی ظفر: آخری بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں public trust جو نقصان ہم نے پہنچا دیا ہے، اس کے بعد لوگ اسلام آباد ہائی کورٹس کی judgement کو بھی نہیں مانیں گے اور یہ نقصان کی ذمہ داری میں 26 ویں ترمیم اور جو حکومت کی حرکات ہیں ان پر رکھتا ہوں۔ اب میں آخر میں دو چیزیں کہنا چاہوں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ PECA۔۔

میڈم پریذائڈنگ آفیسر: please wind up: آپ PECA پر بھی بات کر چکے ہیں بیس منٹس ہو رہے ہیں۔ نہیں please Barrister sahib, twenty minutes کبھی مجھے نہیں ملے۔ اب mic ادھر۔ that's enough۔

سینیٹر سید علی ظفر: آخری بات یہ ہے بہت ضروری بات ہے۔

میڈم پریذائڈنگ آفیسر: نہیں آپ کو ایک سیکنڈ میں بس۔۔

سینیٹر سید علی ظفر: آپ سے میری request یہ ہے کہ جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں وہ ایوان میں نہیں بیٹھ رہے کیونکہ انہوں نے ایک production order دیا ہوا ہے، اس production order کی implementation نہیں ہو رہی۔ چوتھا میرا point یہ ہے کہ جو سینیٹر اعجاز احمد چوہدری صاحب کا production order implement نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے ہم سب کی reputation بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ سینیٹ کی بھی۔۔

Madam Presiding Officer: You have made your point, twenty and half minutes, thank you.

جی بالکل آپ تشریف رکھیں۔ آپ کی پوری بات آگئی ہے میں آپ کو نہیں روک رہی، سب کو عزت و تحمل سے۔ اب یہاں سے کون بولیں گے؟ سینیٹر عرفان الحق صدیقی صاحب آپ بولیں گے۔ سینیٹر صاحب آپ اپنی سیٹ پر جائے گا تو۔۔۔

(مداخلت)

میڈم پریذائینڈنگ آفیسر: آپ دوسروں کو تحمل سے سن لیجئے! براہ مہربانی سن لیجئے! آپ کی بات بالکل جائز ضرور ہوگی۔

(مداخلت)

میڈم پریذائینڈنگ آفیسر: جی، انہوں نے ہی مجھے chair کرنے کے لیے کہا ہے۔ نہیں جی، انہوں نے ہی مجھے کہا ہے۔ He has asked me to chair the Session, so I am doing it, please allow someone else to speak طرح نہیں ہوتا۔ دیکھیں تحمل سے بات کریں شور و غل نہ کریں۔ ان کی بات بھی سن لیں۔ جی، leader of the opposition اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کا mic on leader of the opposition ہے۔ mic on کریں۔ سینیٹر سید شبلی فراز: سینیٹر عون عباس صاحب PECA کے اوپر ایک resolution پیش کرنا چاہتے ہیں۔

(مداخلت)

Pointing out of the quorum

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: میڈم! ایوان میں کورم پورا نہیں ہے۔ میڈم پریذائینڈنگ آفیسر: یہ تو بات نہیں ہوتی۔ دیکھیں ایوان میں گفتی کر لیں۔ کورم کی point out ہوا ہے، I am sorry, I have to take the count، آپ کی مہربانی، بد تمیزی کا کوئی جواز نہیں ہے، count be made. The House is not in quorum, I am so sorry, Law Minister.

(Count was made)

Madam Presiding Officer: Count was made. The House is not in quorum. The House stands adjourned to meet again on Monday, 17th February, 2025 at 04:00 p.m.

*[The House was then adjourned to meet again on
Monday 17th February, 2025, at 04:00 p.m.]*
